

Diploma in Information Technology

IV Semester Examination September 2020

IT - 404 : System Administration

Total Time : 3 hrs

Total Marks : 70

نوت۔ 2016 Batch کے طلباء کے لئے حصہ اول (10×1=10) اور 10×2=20 Old Batch کے طلباء کے لئے حصہ اول

### ہدایات:

یہ پرچہ سوالات تین حصوں پر مشتمل ہے: حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم۔ ہر جواب کے لیے لفظوں کی تعداد اشارہ ہے۔ تمام حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔

1. حصہ اول میں 10 لازمی سوالات ہیں جو کہ معروضی سوالات / خالی جگہ پر کرنا / مختصر جواب والے سوالات ہیں۔ ہر سوال کا جواب لازمی ہے۔ ہر سوال کے لیے 1 نمبر مختص ہے۔ (10 x 1 = 10 Marks)
2. حصہ دوم میں 8 سوالات ہیں، اس میں سے طالب علم کو کوئی 05 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً دو سو (200) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 06 نمبرات مختص ہیں۔ (5 x 6 = 30 Marks)
3. حصہ سوم میں 5 سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی 03 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً پانچ سو (500) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 10 نمبرات مختص ہیں۔ (3 x 10 = 30 Marks)

### حصہ - اول

سوال 1

- ..... command کا استعمال کرتے ہیں۔
- (i) Active Directory کا استعمال کرنے کے لئے install کو command .....
- (ii) windows NT کا پورا نام کیا ہے۔
- (a) Windows Network Technology      (b) Windows New Technology
- (c) Windows Nano Technology      (d) Windows Name Technology
- (iii) FAT سے NTFS میں تبدیل کرنے کے لئے command .....
- (iv) Kernal سے کیا مراد ہے۔
- (v) Linux کے shells کے نام لکھیں۔
- (vi) Distributed File System سے کیا مراد ہے۔
- (vii) Work Station سے کیا مراد ہے۔
- (viii) vi ایک ..... ہے۔
- (ix) backup سے کیا مراد ہے۔

حصہ - دوم

windows NT Server کے بارے میں لکھیں۔	2
windows 2003 editions کے بارے میں لکھیں۔	3
optional services کے بارے میں لکھیں۔ windows 2003 server	4
group management users میں اور windows 2003 server کے بارے میں لکھیں۔	5
VPN کی وضاحت کریں۔	6
filtering techniques کو سمجھائیے۔ Linux	7
configure کرنے کا طریقہ تائیں۔ printer کو windows 2003 server میں	8

حصہ - سوم

Network Components کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں۔	10
window 2003 server components کو تفصیل سے بیان کریں۔	11
DHCP کو کس طرح install اور configure کرتے ہیں۔ windows 2003 میں DHCP سے کیا مراد ہے؟	12
DNS کو کس طرح install اور configure کرتے ہیں۔ Linux میں DNS سے کیا مراد ہے؟	13
Internet Information Service (IIS) کو کس طرح monitor اور manage کرتے ہیں۔ بیان کریں۔	14

☆☆☆